



سوال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری جیب میں صبح وشام کے اذکار والا کارڈ ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں غسل خانہ میں جانے کے لیے اس کارڈ کو باہر رکھنا ہوگا۔؟

جواب

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صبح وشام کے اذکار میں آیات قرآنیہ بھی ہوتی ہیں اور علاوہ ازیں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ بیست انخلا میں داخل ہونا درست نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ شیخ صالح المنجد ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

علماء کرام نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لیٹرین یا گندگی والی جگہ پر قرآن مجید لے کر داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے احترام کے منافی ہے، لیکن اگر یہ خوف ہو کہ لیٹرین کے باہر رکھنے سے چوری ہو جائے گا، یا پھر وہ بھول جائے گا تو اس حالت میں اس کی حفاظت کی ضرورت کی بنا پر اندر لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔

ربا کیسٹ کا مسئلہ تو یہ قرآن کی طرح نہیں، کیونکہ کیسٹ میں کتابت اور لکھائی نہیں ہے، صرف زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس میں کچھ معین قسم کی لہریں پائی جاتی ہیں جو ٹیپ میں چلنے کے وقت آواز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے انہیں وہاں لے جایا جاسکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں

شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہا لیٹرین میں مصحف اور قرآن مجید لے کر جانے کا مسئلہ تو یہ جائز نہیں، لیکن ضرورت کے وقت ایسا کیا جاسکتا ہے، جب آپ کو خدشہ ہو کہ وہ چوری ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں“ (مجموع فتاویٰ ابن باز (30/10))

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث الإسلامي
مهدى فتوى

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ